

سلسلہ مواعظ حصہ نمبر ۴۴

قافلہ حبیبؐ کی علامت

عارف اہل حق سے لیا گیا ہے
مخبر انجمن اہل حق سے



کتاب خانہ مظہری
کراچی

سلسلہ

مواعظِ حسنہ نمبر - ۴۲

قافلہٴ جنت کی علامت

عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم

کُتُبُ خَانَةِ مَظْهَرِي

گلشن اقبال نمبر ۲ پوسٹ بکس ۱۱۱۸۲

کراچی فون ۳۷۸۱۱۲ ، ۳۹۹۲۱۷۶



انتساب

احقر کی جملہ تصانیف و تالیف مرشدنا و مولانا
محی السنہ حضرت اقدس شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم
اور حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ
اور حضرت اقدس مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کی صحبتوں کے فیوض و برکات کا مجموعہ ہیں۔

احقر محمد اختر عفا اللہ تعالیٰ عنہ



فہرست

صفحہ	عنوان
۴	ضروری تفصیل.....
۶	اللہ کے خوف کی علامت اور مقدار.....
۷	خانقاہ = علم کی روشنی + عشق کا راستہ.....
۸	علم عظیم.....
۱۱	تقویٰ کا امتحان.....
۱۳	منازل اولیاء کے نشان.....
۱۴	اہل تقویٰ کا حساس قلب اور تقویٰ کا انعام عظیم.....
۱۵	باب تقویٰ کی حفاظت میں اہل اللہ کا نور بصیرت.....
۱۷	ولایت صدیقیت تک پہنچنے کا پہلا اور آخری موقع.....
۱۸	قلب شکستہ کی لذت بے مثل.....
۲۲	قافلہ جنت اور اس کی علامت.....
۲۶	خوف اور خشیت کا فرق.....
۲۹	گناہوں سے بچنے کا آسان راستہ.....

﴿ ضروری تفصیل ﴾

نام و عطف:	تافلہ جنت کی علامت
واعظ:	عارف باللہ حضرت اقدس مرشدنا و مولانا شاہ محمد اختر صاحب
تاریخ:	دام ظلّالہم علینا الیٰ مائة وعشرین سنة ۷؍ رذوالحجہ ۱۴۲۰ھ مطابق ۱۳؍ مارچ ۲۰۰۰ء بروز دوشنبہ
وقت:	بعد نماز مغرب
مقام:	مسجد اشرف واقع خانقاہ امدادیہ اشرفیہ گلشن اقبال بلاک نمبر۔ ۲ کراچی
موضوع:	اہل جنت کی خاص علامت و خصوصیات قرآن پاک کی روشنی میں
مرتب:	یکے از خدام حضرت والامہ ظلمہم العالی
کیپوزنگ:	سید عظیم الحق۔ ۱۔ ج ۶۷/۳ مسلم لیگ سوسائٹی ناظم آباد نمبر۔ ۱۔ ۶۶۸۹۳۰۰
اشاعت اول:	دو قعدہ ۱۴۲۲ھ مطابق جنوری ۲۰۰۲ء
تعداد:	۳۰۰۰
ناشر:	کُتُبْ خَانَه مَنظہرِی
	گلشن اقبال۔ ۲ کراچی پوسٹ آفس بکس نمبر ۱۱۱۸۲ کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قافلہ جنت کی علامت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَا بَعْدُ
فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ -
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۗ

آج ایک بہت اہم مضمون بیان کرنا ہے جو ابھی دل میں آیا ہے اور وہ یہ کہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ جنت کس کا ٹھکانہ ہے؟ منزل جنت کے باشندے، جنت میں رہنے والے کون لوگ ہیں؟ یعنی جنت جن کے لیے مقدر ہے وہ کون لوگ ہیں؟ قافلہ جنت کی علامت کیا ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ یہ آدمی جنتی ہے اور قافلہ جنت والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی علامت بیان فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ جو اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا اور نفس کو اللہ کی نافرمانی کے تمام تقاضوں سے روکے یعنی اپنا دل توڑ دے، اللہ پاک کے قانون کو نہ توڑے لہذا جب آپ کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہو تو اپنے دل ہی سے پوچھو۔ میں آپ ہی کو مفتی بنا رہا ہوں کہ اپنے دل سے پوچھو کہ اگر یہ

خواہش ہم پوری کر لیں تو ہمارا دل تو خوش ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا یا نہیں؟ جب آپ کا دل کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ تو ناخوش ہو جائے گا تو آپ دل کو توڑ دیں اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ توڑیں۔ جو عظمتِ البیہ کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے دنیا میں اور آخرت میں معظّم، معزز اور مکرم کرتے ہیں اور جو اپنے دل کی حرام خوشیوں کو نہیں توڑتا اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ کر اپنا دل خوش کرتا ہے اللہ بھی ایسے لوگوں کو توڑ دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

اللہ کے خوف کی علامت اور مقدر

تو جنت کے قافلے کی علامت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جُوَ اِپْنِ رُب كُو حَسَاب دِينِ سِ
 خُوف كَرِي كِ مِيں اللہ كو كِيَا مَنه دَكْهَاؤُنْ كَا، اللہ كو كِيَا حَسَاب دُوں كَا
 اور اللہ كِ خُوف كِي عِلَامَت كِيَا هِي؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ
 اِپْنِ نَفْس كُو بَرِي خَوَاهِشَات سِ رُو كْتَا هُو۔ بس اَتَا خُوف هُو كِه گِنَاه
 سِ رَك جَايْ اِپْنِ نَفْس كِي اِن خُوشِيُوں كُو جُو مَرْضِي الْهِي كِ خِلَاف
 هُوں تُوڑ دِينِ كِي تُوْفِيْق هُو جَايْ۔ اس سِ زِيَادِه خُوف مَطْلُوب نِهِيں
 هِي كِه هِر وَقْت خُوف الْهِي سِ كَانِطَا رِهِي اور بِيُوِي بِيُوُوں كَا حَق اِدَا نِه
 كَر سَكِي اور دَكَا ن پَر بِيُوِي نِه جَا سَكِي اور چَار پَايِي پَر لِيْثَا هُوَا كَانِط رِهَا هِي
 كِه خُوف الْهِي سِ تَرُپ رِهَا هُوں۔ اَتَا خُوف فَرَض تُو دَر كِنَار جَايْز هِي
 نِهِيں هِي اس لِي سِرُور عَالَم صَلِي اللّٰهُ عَلِيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اِرْشَاد فرمَاتِي هِيں:

﴿اللَّهُمَّ اقسِمُ لَنَا مِنْ خَشِيَّتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ﴾
 جو لوگ عربی قواعد سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں
 مِنْ تَبْعِيْضِيْهِ ہے۔ مِنْ خَشِيَّتِكَ یعنی اے اللہ میں آپ کے
 خوف میں سے کچھ حصہ مانگتا ہوں، اتنا خوف مانگتا ہوں جو میرے
 اور آپ کے معاصی کے درمیان حائل ہو جائے، اس سے زیادہ
 اگر خوف مل جائے گا تو میں چارپائی پر ہی لیٹ جاؤں گا اسی
 لیے مِنْ خَشِيَّتِكَ فرمایا۔ خشیت کے معنی بھی خوف کے ہیں
 لیکن خشیت اور خوف میں کیا فرق ہے؟ قرآن پاک میں کہیں
 خوف آیا ہے کہیں خشیت آیا ہے جبکہ خشیت کے معنی بھی ڈرنے
 کے ہیں اور خوف کے معنی بھی ڈرنے کے ہیں تو خوف اور خشیت
 میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے۔ بتاؤ کتنا علمی سوال ہے؟

”خَانِقَاهُ“

علم کی روشنی + عشق کا راستہ

یہ اس لیے بتاتا ہوں تاکہ یہ نہ معلوم ہو کہ خانقاہ میں علم نہیں
 ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خانقاہوں میں علم نہیں ہوتا خالی
 پیری مریدی ہوتی ہے۔ بس چند وظائف اور حق وھو کرنے کا نام
 خانقاہ ہے۔ الحمد للہ یہ ہمارے بزرگوں کا فیض ہے کہ یہاں خالی
 پیری مریدی نہیں ہے، علم کی روشنی میں اللہ کا راستہ طے کیا جاتا

ہے اور علم کی روشنی میں اللہ سے محبت کرنے کا نام ہی خانقاہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ بڑے بڑے
علماء اس فقیر کے علم کو نوٹ کرتے ہیں۔

علم عظیم

جنوبی افریقہ سے بخاری شریف پڑھانے والے ایک محدث یہاں
آئے تھے، میرے خلیفہ بھی ہیں اور جنوبی افریقہ کے صوبہ ڈربن میں
شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں ان سے میں نے گزارش کی کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دُعا مانگی کہ اَللّٰهُمَّ اِرِنَا الْحَقَّ
حَقًّا وَّارْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ، وَاِرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، تو اللہ
کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وَفَّقْنَا کے بجائے یہاں
وَاِرْزُقْنَا کیوں مانگا یعنی یہ نہیں مانگا کہ اے اللہ ہمیں حق کو
حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما اور باطل کو باطل دکھا اور اس
سے بچنے کی توفیق عطا فرما بلکہ اس عنوان سے مانگا کہ اے اللہ ہمیں حق
کو حق دکھا وَاِرْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ، اور حق بات کی اتباع کو ہمارا رزق،
ہماری روزی بنادے اور باطل کو باطل دکھا وَاِرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور
باطل سے اجتناب، دوری اور احتیاط کو بھی ہمارا رزق بنادے تو یہاں
توفیق کیوں نہیں مانگی، رزق کیوں مانگا اس میں کیا راز ہے؟ میں نے
گزارش کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دوسری

حدیث سے سمجھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَنْ تَمُوتَ نَفْسًا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا كَوَيْ نَفْسٍ كَوَيْ جَانِدَارٍ هَرَّكَزٍ نَهِيں مرے گا جب تک اپنا رزق مکمل استعمال نہیں کر لے گا یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ (Complete) نہیں کر لے گا۔ جب تک اپنا رزق مکمل نہیں کھالے گا، جب رزق کا ایک دانہ بھی باقی نہیں رہے گا تب اسے موت آئے گی۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَارْزُقْنَا اس لیے فرمایا کہ جس طرح پیٹ کی دنیوی روزی مکمل کیے بغیر کوئی نہیں مرے گا تو ہمیں نیک عمل کا مکمل رزق دے دے اور برائی سے بچنے کا رزق بھی مکمل دے دے تاکہ میرا امتی نہ مرے جب تک اے اللہ وہ آپ کا پورا پورا تابعدار اور پورا پورا فرماں بردار نہ ہو جائے، جب تک وہ اپنا رزق اتباع حق اور اپنا رزق اجتناب عن الباطل کا مکمل نہ کر لے یعنی جب تک اپنی روزی نیک عمل کی پوری نہ کر لے اور جب تک گناہوں سے پرہیز کا وہ پورا مرزوق نہ ہو جائے، نافرمانی سے پورا پورا بچنا اس کا نصیب اور مقدر نہ ہو جائے میرے کسی امتی کو اس وقت تک موت ہی نہ آئے۔

یہ سن کر بخاری شریف پڑھانے والے ان شیخ الحدیث نے کہا کہ زندگی پڑھاتے ہوئے گذر گئی لیکن کبھی یہ نکتہ ذہن میں نہیں آیا، نہ آج تک کسی کتاب میں یہ مضمون پڑھا، نہ اپنے اساتذہ سے سنا۔ میں نے کہا بھئی میں نے بھی نہیں سنا، نہ میں نے دیکھا لیکن میں کیا کہوں۔

میرے پینے کو دوستوں سن لو
 آسمانوں سے مے اترتی ہے
 اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کا کرم ہے بزرگوں کی دعائیں لگ گئیں۔
 ایک شاعر مجھے ملا اس نے ایک شعر سنایا۔

چاند تارے مرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں
 یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے
 یہ میرا پچھتر سال کا تجربہ ہے کہ کسی اللہ والے کی خدمت کر لو،
 اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ میرے پیاروں کی خدمت کرتا ہے امید ہے
 ان شاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ محروم نہیں رہے گا اور ہماری
 لاکھوں محنتوں اور لاکھوں عبادتوں سے اللہ کا ایک ذرہ کرم افضل ہے۔
 مولانا رومی فرماتے ہیں۔

ذره سایہ عنایت بہتر است

از ہزاراں کوشش طاعت پرست

معمولی مضمون نہیں ہے، یہ مولانا رومی ہیں کہ اللہ کی عنایت و رحمت
 کا ایک ذرہ سایہ مل جائے تو ہماری ہزار ہا محنت سے وہ بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ
 کا کرم ہے کہ اس حدیث پاک میں رزق کی یہ شرح جو میں نے کی ہے ساری
 کتابوں میں دیکھ ڈالو امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم اختر پر خاص
 پائیں گے ذلک مما خصصنی اللہ تعالیٰ بکرمہ یہ وہ علوم ہیں
 جن میں اللہ تعالیٰ نے اختر کو امید ہے کہ شاید خاص کیا لیکن میں شاید

کہتا ہوں تواضع اور دعویٰ توڑنے کے لیے اور یہ شاید کہنا بھی میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احقر کو یہ شعر سنایا کہ۔

شکر ہے دردِ دل مستقل ہو گیا

اب تو شاید مرا دل بھی دل ہو گیا

اور حضرت نے فرمایا کہ یہ شاید میں نے تواضع کے لیے کہا ہے تاکہ بڑائی ثابت نہ ہو۔ ہمارے بزرگ ہمیشہ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ہماری زبان سے اپنی بڑائی ثابت نہ ہو۔

تقویٰ کا امتحان

یہ مستقل دردِ دل خانقاہوں سے لیا جاتا ہے۔ نفلی حج و عمرہ تو سب ہی کر لیتے ہیں، مسجد کے گوشے میں تو بہت لوگ تلاوت کر لیتے ہیں اور رو لیتے ہیں لیکن کمال یہ ہے کہ جب بندر روڈ اور لفٹنن اسٹریٹ سے گذرو جہاں بے پردہ عورتیں ہوں وہاں تقویٰ سے رہو۔ جو بلی چوہوں کے باوجود پرہیزگار رہے، سامنے چوہے ہوں لیکن نظر پھیر لے تب سمجھو کہ ہاں یہ صوفی ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ ایک بلی کی کھوپڑی پر چراغ جلا کر اس چراغ کی روشنی میں فرامین سلطنت لکھتا تھا۔ بلی کو ایسی تربیت اور ٹریننگ دی تھی کہ وہ سر نہیں ہلاتی تھی کہ چراغ گر جائے گا۔ بادشاہ کو ایک دن احساس ہوا کہ میں بہت ہی زبردست مرئی ہوں۔

اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ اے وزیر دیکھ میرا کمال! میں نے اس بلی کو کیسی تربیت دی ہے۔ مجال نہیں کہ یہ سر ہلا دے اور چراغ گرا دے۔ وزیر نے کہا کہ حضور میں آپ کی تربیت یافتہ بلی کا امتحان اور ایگزام (Exam) لوں گا یعنی کیٹ (Cat) کا امتحان بذریعہ ریٹ (Rat) لوں گا۔ تب پتہ چلے گا کہ آپ کی تربیت کا کیا ریٹ (Rate) ہے۔ دوسرے دن وزیر آیا اور اپنے جھولے میں ایک چوہا لے آیا۔ جب بادشاہ نے بلی کے سر پر چراغ جلایا اور فرمان سلطنت لکھنے لگا تب وزیر نے تھیلے سے چوہے کا سر نکال کر بلی کو دور سے دکھایا۔ بلی نے جو چوہا دیکھا تو مارے خوشی کے اس کی مونچھیں کھڑی ہو گئیں کہ آج تو بہترین شکار ہے اور تھوڑی دیر بعد غر، غر، غر، غر شروع کر دیا۔ وزیر نے جب دیکھا کہ بلی مست ہو رہی ہے اور کیٹ کا ریٹ کے ساتھ نارگٹ نوے ڈگری کا بن گیا ہے تو اس نے چوہے کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی چوہے کو چھوڑا تو بلی نے حملہ کر دیا اور سارا تقویٰ ٹوٹ گیا، سارا دعویٰ نسبت و دعویٰ تہذیب و تربیت و ٹریننگ سب پاش پاش ہو گیا، چراغ کا ٹھیکرا کہیں گرا، تیل کہیں گرا، بتی کہیں گری تو بادشاہ بھی اپنی حماقت اور تربیت کے دعوے پر ہنسا اور وزیر نے کہا دیکھا آپ نے کیٹ کی تربیت کا حال! کیٹ کا امتحان ریٹ سے لیا جاتا ہے۔ جب کسی صوفی کے سامنے بازاروں میں بے پردہ عورتیں آئیں یا جہاز پر بیٹھے اور ایئر ہوسٹس سامنے آئے اب امتحان ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ اس کا

تعلق اللہ سے زیادہ ہے یا اپنے نفس سے زیادہ ہے، یہ نفس کی خواہش کا غلام ہے یا اللہ تعالیٰ کا شریف بندہ ہے۔

﴿ لَا شُجَاعَةَ يَا فَتَى قَبْلَ الْحُرُوبِ ﴾

مولانا رومی فرماتے ہیں اے جوان تیری ڈیگ اور لاف زنی کی کوئی حقیقت نہیں۔ قبل جنگ کے ہم تیری شجاعت و بہادری کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جنگ میں بہادری دکھائے تو بہادر ہے۔ نفس و شیطان کی جنگ میں جب اللہ والا اپنی محبت کا جھنڈا لہرا دے اور نظر پھیر لے اور اپنے دل کی خواہشات کو پاش پاش کر دے، دل کو توڑ دے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ توڑے، ان کے قانون کی حرمت اور عظمت کا جھنڈا لہرا دے تب سمجھو کہ یہ بندہ صاحب نسبت ہے، صاحب ولایت ہے، اللہ کا مقبول ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ خانقاہوں میں اسی کی مشق کی ضرورت ہے۔ گناہ کے چھوڑنے میں، بری خواہشوں کے توڑنے میں اور اللہ پر فدا ہونے میں جو جتنا زیادہ غم اٹھائے گا، جتنا زخم حسرت کھائے گا اتنا ہی بڑا ولی اللہ ہوگا۔ اگر کسی نے دس کلو غم اٹھایا تو نور بھی دس کلو پیدا ہوگا۔

منازل اولیاء کے نشان

اسی غم سے اولیاء اللہ کے مراتب کا پتہ چلتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اولیاء اللہ کے مراتب اور ان کے درجات کا کیسے پتہ چلتا ہے تو کہہ دو کہ اسی غم سے پتہ چلے گا کہ اس کے وہ مراغب طبعیہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہیں وہ اپنے ان مراغب طبعیہ کو احکام شرعیہ کے تابع کرتا ہے

یا نہیں یعنی جب کسی صوفی کے دل کے مرغوبات اور طبعی پسندیدہ چیزیں سامنے ہوں لیکن اللہ ان مرغوبات سے راضی نہ ہو اس وقت یہ اپنی پسند اور مرغوبات پر اللہ کی مرضی کو غالب کرتا ہے یا نہیں۔ اگر دیکھو کہ اس نے اپنے مراغبِ طبعیہ کو احکامِ شرعیہ کے تابع کر دیا تو سمجھ لو کہ یہ صاحبِ نسبت ہے، ولی اللہ ہے، اللہ کا مقبول ہو چکا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیارا اور مقبول ہونے کی علامت یہی ہے کہ وہ غیر مقبول کام نہیں کرتا۔

اہلِ تقویٰ کا حساس قلب اور تقویٰ کا انعامِ عظیم

اگر کبھی احياناً احتیاط کرنے میں قصور ہو گیا، کچھ خطا ہو گئی چند اعشاریہ بھی نفس نے مزہ لوٹ لیا تو اس کے دل کا تھرما میٹر ایسا حساس ہوتا ہے جیسے صراف کا ترازو کہ جب وہ سونا اور جواہرات تولتا ہے تو سانس بھی روک لیتا ہے ورنہ سانس سے بھی ترازو ہل جاتا ہے ایسے ہی اہل اللہ جو اللہ پر فدا رہتے ہیں ان کے قلب کے میزانیہ اور قلب کی ترازو کی نزاکتیں اتنی حساس کر دی جاتی ہیں کہ اگر ان کا نفس ایک اعشاریہ بھی حرام مزہ امپورٹ کر لے تو ان کا دل خوف سے ہل جاتا ہے اور پھر اشکِ ندامت و گریہ وزاری پر عالمِ غیب کے کرم سے عالمِ غیب کے بوسے ان کو ملتے ہیں۔ میرا شعر ہے۔

از لبِ نادیدہ صد بوسہ رسید

من چہ گویم روح چہ لذت کشید

اللہ تعالیٰ کے لب نظر نہیں آتے کیونکہ وہ لبوں سے پاک ہیں لیکن ان کی راہ میں گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانے سے دل ان کے پیار کے بوسے، ان کے قرب کی حلاوت محسوس کرتا ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے۔ وہ اپنے بندوں کے مجاہدے کو اور اپنے بندوں کے غم کو رازِ گناہ نہیں کرتا۔

ان حسینوں سے دل بچانے میں

ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں

جب حسین شکلیں سامنے آئیں، جب گناہ کا موقع آئے تب پتہ چلتا

ہے کہ یہ کس قدر اللہ کا عاشق ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے کا

مرد ہے یا مخنث ہے۔ جو مردانِ خدا ہیں وہی گناہ سے بچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ

ان کے قلب کو حساس کر دیتے، ہیں کیونکہ اللہ لطیف ہے، لطیف نام ہے ان کا،

تو اپنے عاشقوں کے مزاج میں بھی وہ لطافت پیدا کر دیتے ہیں اور کثافت

سے پاک کر دیتے ہیں۔ گناہوں میں کثافت ہے، اللہ کی عبادت میں لطافت

ہے تو جب شیطان و نفس ان کو عبادت سے انحراف کرا کے کثافت کا ایک ذرہ

داخل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے قلب کی ترازو میں رعشہ اور لرزہ پیدا ہو جاتا ہے

اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا دشمن کوئی گڑ بڑ قسم کی لذتِ حرامِ قلب میں

امپورٹ کر رہا ہے تو فوراً اپنے قلب کی نگرانی کرتے ہیں۔

باب تقویٰ کی حفاظت میں اہل اللہ کا نور بصیرت

مثلاً اگر نفس ان کو کبھی دھوکہ دینے کی کوشش کرے کہ یہ لڑکا پڑھنے

میں بہت اول نمبر ہے یا یہ لڑکی جو قرآن شریف یاد کر رہی ہے بہت ہی تیز ہے

اس کے لیے خاص دعا کرو اور اس پر دم کر دو اس وقت اپنے عاشقوں کو اللہ تعالیٰ فوراً سمجھ اور فہم سلیم اور عقل سلیم دیتے ہیں کہ یہ نفس ہے جو کبھی دین کے راستہ سے دھوکہ دیتا ہے اور ان کو اپنے قلب کی استقامت کے ترازو کو قائم رکھنے کے لیے ہمتِ عالیہ عطا کرتا ہے۔ اس وقت وہ اس شعر پر عمل کرتے ہیں۔ میرا شعر ہے، سنئے

ہمارے نفس امارہ نے جب دامِ بتاں بدلا

تو ہم نے بابِ تقویٰ پر بھی فوراً پاسبان بدلا

بتوں کو یعنی حسینوں کو پھنسانے کے لیے نفس نے جب نیا جال نکالاتا کہ صوفی کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھے کہ میں تو خالی حسینوں پر پھونک مار رہا ہوں۔

پھونک پر یاد آیا کہ برطانیہ میں ایک میمن آیا، بہت موٹا تھا۔ سب تو پھونک مانگ رہے تھے لیکن اس نے کہا مولانا ہم کو ایک پھونکا دے دو۔ زندگی میں کبھی میں نے یہ لفظ نہیں سنا تھا، مجھے بھی گدگدی لگی اور ہنسی آگئی تو میں نے پورا مزہ لینے کے لیے منبر سے اعلان کر دیا کہ جس جس کو پھونکا لینا ہو، جلدی آ جاؤ۔ آج یہ فقیر کسی کو اپنے پھونکا سے محروم نہیں کرے گا۔ میں نے وہی لفظ استعمال کیا جس سے مجھے مزہ آیا۔ میں حلال مزہ ایک بھی نہیں چھوڑتا مگر حرام سے بچنے کی پوری کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں۔ اگر کوئی اس شعر پر ایک لاکھ روپے انعام بھی دے تو اس شعر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔

ہمارے نفس امارہ نے جب دامِ بتاں بدلا
 تو ہم نے بابِ تقویٰ پر بھی فوراً پاسباں بدلا
 ہمارے نفس امارہ نے جال بدل دیا اور نیا جال لایا پرانا شکاری
 تاکہ صوفی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کس جال میں پھنس رہا ہوں تو ہم نے بھی
 تقویٰ کے گیٹ پر فوراً گیٹ مین بدل دیا کہ یہ تو خود ڈاکوؤں سے مل گیا ہے۔
 بتائیے اگر آپ کا پاسبان، گیٹ مین اور چوکیدار ڈاکوؤں سے مل جائے تو
 آپ اسے بدلیں گے یا نہیں؟ تو یہ نفس بہت ظالم ہے۔ یہ اللہ کے حرام
 کیے ہوئے اعمال میں پھنسانے کے لیے طرح طرح کے جال بناتا ہے۔
 تو عقلمند صوفی وہ ہے جو نفس کے جالوں سے اور نفس کی چالوں سے ہوشیار
 رہے اور جب دیکھے کہ نفس مکاری کر کے گناہ کے نئے جال میں پھنسانا
 چاہتا ہے تو تقویٰ کی حفاظت میں اور مضبوط ہو جائے، اور زیادہ قوی
 تدابیر اختیار کر کے بابِ تقویٰ کی حفاظت کرے۔

ولایت صدیقیت تک پہنچنے کا پہلا اور آخری موقع

بس میں دردِ دل سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اولیائے صدیقین کی
 آخری سرحد تک پہنچ کر مرنا ہے اور ایسی زندگی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی
 کامل حیات نہیں جو اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی کر لے کہ اولیاء صدیقین کی آخری
 سرحد کو چھو لے کیونکہ اس کے بعد ولایت کا کوئی درجہ نہیں ہے اور جو اس
 درجے کو نہیں چھوئے گا تو ایک دن مرنا تو ہے مگر ناقص مرے گا، نامکمل مرے
 گا اور لذتِ حیات سے نا آشنا مرے گا، لذتِ حیاتِ اولیائے صدیقین

سے نا آشنا موت آئے گی اور اس کی پھر کوئی تلافی نہیں کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں آنا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندہ ہوا ہے؟ یہی ایک فیئلہ بار اول میں، مرتبہ اولیٰ میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ایک ہی دفعہ زندگی ملنی ہے تو کیوں نہ ہم تھوڑی سی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں جان کی بازی لگا دیں۔

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
جس کی جتنی قربانی
اتنی خدا کی مہربانی

ناممکن ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں غم اٹھائے اور اپنی بری خواہشوں کو توڑ دے اور اللہ کے قانون کو نہ توڑے، احترامِ قانونِ شرعیہ کی وجہ سے اپنے مراغبِ طبعیہ کو توڑتا رہتا ہے۔ بتاؤ یہ الفاظ کبھی آپ نے سنے تھے مجھ سے۔
نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں

قلبِ شکستہ کی لذتِ بے مثل

تو کیا اس کے شکستہ قلب پر، اس کی آرزو کی شکست و ریخت اور ٹوٹے ہوئے دل پر خدائے تعالیٰ کو رحم نہ آئے گا کہ میری وجہ سے یہ بندہ کتنا غم اٹھا رہا ہے، کتنے زخمِ حسرت کھا رہا ہے، ہر وقت نظر کو بچا بچا کر دل کو پاش پاش کر رہا ہے تو کیا خدا ارحم الراحمین نہیں ہے، ایسے عاشقوں کے دل پر اس کو رحم نہ آئے گا؟ وہ خالقِ لذات کائنات اور خالقِ نمکیات

لیلائے کائنات اس کو اتنا مزہ دے گا کہ سارے عالم کی لیلاؤں کا حسن ماند پڑ جائے گا اور دنیا میں اس کے لطف کی مثال نہ ہوگی اور اللہ کی رضا اور اللہ کے نام پر فدا ہونے کی برکت سے اس عاشق کا لطف غیر محدود ہوگا، غیر فانی ہوگا، بے مثل ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، غیر فانی ہے، غیر محدود ہے اس لیے جو اُن پر فدا ہوتا ہے اس کو وہ بے مثل غیر فانی اور غیر محدود مزہ عطا فرماتے ہیں۔

کاش یہ بات میری اور آپ کی سمجھ میں آجائے اگر یہ بات سمجھ میں آجائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اللہ پر فدا ہونے کو اپنی کامیابی کا راز سمجھیں گے اور اولیائے صدیقین کی خطِ انتہا تک پہنچنے کی منزل اس کی ابتدا ہی سے محسوس کریں گے۔ جس دن سے آپ اپنی خواہشوں کو توڑنے کی مشق کریں گے اسی دن سے آپ کو اولیائے صدیقین کی خوشبودار ڈش (DISH) محسوس ہونے لگے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے قلب کو اپنے بے شمار بوسوں سے اور رحمتوں سے اور نوازشوں سے پیار کرے گا جس کے سامنے آپ کو ہفت اقلیم کی سلطنت لٹی ہوئی، نیلام ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور سورج و چاند کی روشنی میں لوڈ شیڈنگ محسوس ہوگی اور ساری کائنات اور کائنات کی تمام رنگینیاں آپ کو بے قدر معلوم ہوں گی اور آپ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ

جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن
گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراھن

اے دنیا والو! یہ دنیا کی رنگینیاں اللہ تعالیٰ کے جمال کو نہیں چھپا سکتیں جب کہ ہر پھول خود ان کا نشان اور ان کا پتہ دے رہا ہے۔ لہذا ان کے جمال غیر محدود اور صفات لافانی و بے مثل کو الفاظ سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں

ہر چہ گویم عشق را شرح و بیاں

چوں بعشق آیم خجل باشم از اں

جب جب میں اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت کی لذتِ غیر محدود، لذتِ قربِ غیر فانی اور لذتِ قربِ بے مثل کو اور اللہ کے عشق و محبت کی داستان کو مست ہو کر بیان کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ آج کا میرا بیان نہایت عالی شان ہے مگر جب دوبارہ مجھ پر عشق طاری ہوتا ہے اور حق تعالیٰ اپنی محبت کی نئی کیفیت طاری کرتے ہیں اور آسمان سے دوبارہ اپنے دردِ محبت کی نئی ڈش اتارتے ہیں تو میں پچھلے مضمون سے اور پچھلے طرزِ بیان سے شرمسار ہوتا ہوں کہ یا اللہ جو پہلا بیان تھا اس میں مجھ سے آپ کی محبت کا حق ادا نہیں ہوا اور آپ کے کرم سے آج کا بیان اگرچہ پہلے بیان سے اعلیٰ ہے لیکن حق آج کے بیان میں بھی ادا نہیں ہوا اور جو کہہ دے کہ مجھ سے حق ادا ہو گیا وہ نادان ہے کیونکہ ان کی ہر وقت ایک نئی شان ہے اور ان کی ہر شان غیر محدود ہے، بے مثل ہے، غیر فانی ہے اور ہم محدود ہیں۔ اس لیے ہمارے محدود پر ہماری

صفتِ محدودیت کے مطابق ہماری تابِ ضبط اور ضعفِ تحمل کے لحاظ سے، ہمارے تحمل کے بقدر حق تعالیٰ اپنی شانِ غیر محدود کی تجلی کا ظہور فرماتے ہیں جس سے کچھ کچھ خوشبو بے مثلیت، غیر محدودیت اور غیر فانییت کی اور شرابِ ازلی ابدی کی اپنے عاشقوں کو سنگھا دیتے ہیں جس سے ان کے عاشقوں کی بھی ہر وقت ایک نئی شان معلوم ہوتی ہے اور شرابِ ازلی ابدی یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کے مزہ کے مقابلہ میں دنیا کی شرابِ غیر ازلی اور غیر ابدی ان کی نگاہوں میں بالکل حقیر ہو جاتی ہے اور وہ اپنے پھٹے پرانے لباس میں اور چٹنی روٹی میں اور اپنے بوریے پر سلطنت کا مزہ پاتے ہیں۔ اب شعر سنیے خواجہ صاحب کل

خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر

تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تختِ سلیمان تھا

اور میرا شعر ہے

یا خدا کا ہر نفس کون و مکاں سے کم نہیں

اہل و فا کا بوریا یہ تختِ شہاں سے کم نہیں

اہل و فا کا بوریا بادشاہوں کے تختِ سلطنت سے کیوں افضل ہے؟

کیونکہ اس بوریا پر بادشاہوں کو تخت و تاج کی بھیک دینے والے

کا نام لیا جاتا ہے۔

قافلہ جنت اور اس کی علامات

اور اہل وفا کون ہیں؟ قافلہ جنت والے ہیں جو اس آیت کے مذکور ہیں جس کی آج میں نے تلاوت کی ہے کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ جنت کا قافلہ کون سا جا رہا ہے اور اہل جنت کون لوگ ہیں تو اس کی دو علامتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادیں نمبراً وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَوْشَنُ اللّٰهِ سے ڈرے کہ ایک دن مجھے حساب دینا ہے اور اللہ کے خوف کی کیا دلیل ہے کیا علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وہ اپنے نفس کو بری خواہش سے روکتا ہے اور یہ دوسری علامت ہے اہل جنت کی۔ جس کو دیکھو کہ وہ اپنے نفس کو بری عادتوں سے اور برے اعمال اور برے افعال سے روک رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور یہی قافلہ جنت کے لوگ ہیں، یہی اہل وفا ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی آرزوؤں کا خون کر لیتے ہیں، اپنے دل کو توڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑتے اور اپنے نفس کو بری خواہش سے کیوں روک لیتے ہیں؟ کسی فوج کے ڈر سے نہیں، یہاں تک کہ اپنے ابا کے ڈر کے مارے بھی نہیں، یہاں تک کہ اپنے مرشد کے ڈر کے مارے بھی نہیں یا اگر مرشد ہے تو مریدوں کے خوف سے نہیں، یا امام ہے تو مقتدیوں کے خوف سے نہیں کہ مقتدی یہاں ہیں، اگر گڑبڑ اور نامناسب کام

کروں گا تو امامت چلی جائے گی تو پھر نفس کو کیوں روکتا ہے؟
 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اپنے رب کے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ
 نے اس آیت میں بتا دیا کہ جو اپنے نفس کو روکے مگر صرف میرے
 خوف سے وہ اہل جنت کا قافلہ ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ
 اس کا ٹھکانہ جنت ہے چاہے کوئی ہو یا نہ ہو بالکل تنہائی ہو اور
 گناہ خود اس سے لپٹنے کی تمنا کر رہا ہو لیکن یہ پناہ مانگے گا کہ ۔
 الہی پیار سے دیکھے نہ یہ گناہ مجھے

تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری تنہائی بھی اللہ والی ہونی
 چاہیے، خلوت ہو یا جلوت ہو ہر جگہ مالک کی دوستی تازہ تر اور
 گرم تر رہے، کہیں بھی اس میں پھیکا پن اور ٹھنڈا پن نہ آئے تو یہ
 دونوں آیتیں ملا کر قافلہ جنت کی آج ڈیزائن پیش کر رہا ہوں۔
 کیسے معلوم ہو کہ یہ جنت کا قافلہ ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے
 خلوتوں میں اور جلوتوں میں تنہائی میں اور مجمع میں قلباً و قالماً و عیناً
 اللہ کے ساتھ رہے یعنی اپنی نظر اور دل اور جسم کی ہر طرح سے ہر
 وقت گناہ سے حفاظت کرتا ہے اور ہر وقت اپنے اللہ پر نظر رکھتا ہے
 اصلی سالک اور اصلی عاشق وہی ہے جس کی ہر سانس اللہ پر فدا ہو اور
 ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہ کرے۔ گناہوں کے لاکھ تقاضے ہوں
 لیکن وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے خدا میرا دل تو چاہتا ہے کہ اس
 عورت کو یا اس لڑکے کو دیکھ لوں یا یہ گناہ کر لوں مگر میں آپ کی نظر

پر نظر رکھ رہا ہوں کہ آپ کی نظر کا کیا فیصلہ ہے۔ کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں؟ دل میں آواز آجائے گی، آپ کا دل خود کہے گا کہ اے میرے عاشق نظر میری نظر کا فیصلہ یہی ہے کہ تو اپنی نظر کو یہاں سے ہٹالے۔

جب آگئے وہ سامنے نابینا بن گئے

جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے

تو اللہ تعالیٰ کو کیا اس پر پیار نہ آئے گا کہ میرا ایک بندہ یہ بھی ہے کہ آنکھوں میں روشنی ہے، اندھا نہیں ہے مگر اپنی روشنی اور بینائی کو کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ کبھی اندھا بن رہا ہے کبھی بینا بن رہا ہے، جہاں دیکھتا ہے کہ میں خوش ہوں وہاں بینا بن جاتا ہے، جہاں دیکھتا ہے کہ میری خوشی نہیں وہاں نابینا بن جاتا ہے تو اس نے اپنی زندگی کو مجھ پر فدا کر دیا خلوت ہو یا جلوت یہ جانتا ہے کہ میرا رب تو ہر جگہ ہے، وہ تنہائی میں بھی ہے اور مجمع میں بھی ہے اس لیے اس کا خَافَ مَقَامَ رَبِّہِ اس کا خوف دائمی ہوگا اور اسی خوف کی وجہ سے یہ خلوت میں اور جلوت میں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ رہے گا، اپنے نفس کو بری خواہشوں سے روکتا رہے گا چاہے گناہ کا لاکھ تقاضا ہو۔

یہاں ایک مسئلہ سن لیجیے کہ تقاضائے معصیت آپ کے لیے کچھ مضر نہیں جب تک آپ ان پر عمل نہ کریں کیونکہ اگر

ہوئی یعنی خواہش اور تقاضائے گناہ نہ ہو تو روکیں گے کیا؟ اگر آپ مجھے منع کریں کہ آپ اس وقت چشمہ نہ لگائیے تو آپ کا یہ کلام صحیح ہوگا کیونکہ میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے۔ جب چشمہ لگا ہے تب ہی تو آپ کہیں گے کہ نہ لگائیے۔ معلوم ہوا کہ ہر نہی اپنے منہی عنہ کے ثبوت کو چاہتی ہے، ہر منع کرنا اس ممنوع چیز کا وجود چاہتا ہے اور اگر آنکھوں پر چشمہ نہیں لگایا ہوا ہے پھر آپ کہیں کہ چشمہ اتار دیجیے تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ** یعنی جو اپنے نفس کی بری خواہشوں کو روکتے ہیں، معلوم ہوا کہ بری خواہش کا وجود ضروری ہے کیونکہ بری خواہش سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، لہذا ممنوع چیز کا وجود ضروری ہوا۔ معلوم ہوا کہ بری خواہش تو ہوگی بس ہمیں اس کو روکنا ہے، اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو! بری خواہش سے گھبرایا نہ کرو ایک کروڑ تقاضے برائی کے آئیں تو آنے دو بس ان پر عمل نہ کرو اور جتنی بری خواہشوں کی بھرمار ہوگی روکنے میں اتنا ہی زیادہ مجاہدہ ہوگا اور جتنا زیادہ مجاہدہ ہوگا اتنے ہی انوار زیادہ ہوں گے۔ شدید خواہش کے سیلاب کو روکنے میں زیادہ جھٹکا لگے گا جیسے تیز پانی کو جھٹکا دے کر بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں مجاہدہ کا جھٹکا دے کر تجلّی دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کا مضمون بالکل نیا ہے۔ میری

طاقت نہیں ہے کتاب دیکھنے کی بس اللہ تعالیٰ سے مانگ کے بیٹھتا ہوں۔
دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی مدد کر دیجیے، ہر پیر، ہر جمعہ کو نیا مضمون
کہاں سے لاؤں مگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جمعہ اور پیر کو مضمون بدل جاتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔

آج قافلہ جنت کی میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ جنت کے قافلے
کون ہیں۔ نمبر۔ ۱؛ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ مگر خوف کتنا ہو
ونہی النفس عن الہویٰ بس اتنا خوف ہو جو اللہ تعالیٰ کی
نافرمانی سے روک دے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے
﴿اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ﴾
اے خدا اپنی خشیت، اپنا خوف ہم کو اتنا دے دیجیے جو ہمارے اور آپ
کی نافرمانی کے درمیان میں دیوار بن جائے، رکاوٹ بن جائے،
حائل ہو جائے۔ بس اتنا خوف مطلوب ہے اس سے زیادہ خوف مطلوب
نہیں کہ ہر وقت کانپتے رہیں کہ نہ دکان جائیں نہ دفتر جائیں، بیوی
بچوں کو بھول جائیں اور بیمار پڑ جائیں۔

خوف اور خشیت کا فرق

میں نے وعدہ کیا تھا کہ خوف اور خشیت کا فرق بتاؤں گا کیونکہ
قرآن پاک میں دونوں لفظ آئے ہیں۔ بتاؤں میں کہاں چلا گیا تھا، یہ کون
مجھ کو واپس لایا۔ یہ وہ ذات ہے جو نظر سے پوشیدہ ہے مگر اس سرکار کا

عالم غیب سے تصرف جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مجھے اس مقام پر واپس لے آئے۔ کسی نے یاد بھی نہیں دلایا کہ خوف میں اور خشیت میں کیا فرق ہے حالانکہ دونوں کا ترجمہ ڈر کیا جاتا ہے، خوف معنی بھی ڈر خشیت معنی بھی ڈر جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾

اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علماء ہیں لہذا جو عالم اللہ سے نہ ڈرے وہ اس آیت کی رو سے عالم نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ علم کے لیے خشیت لازم ہے جس طرح آگ کے لیے حرارت لازم ہے۔ اگر کسی آگ میں ٹھنڈک کا اثر آجائے تو وہ آگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں میں سے جو علماء ہیں وہی مجھ سے ڈرتے ہیں لہذا اگر تم عالم ہو تو کیوں نہیں ڈرتے؟ یہی دلیل ہے کہ تم عالم نہیں ہو اور کہیں اللہ تعالیٰ نے خشیت کے بجائے خوف کا لفظ استعمال فرمایا ہے مثلاً يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ اور جیسے اس آیت میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ تَوْخُوفًا وَرُخْشِيَةً كَافِرًا علامہ آلوسی السید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ خوف اور خشیت کا عام مفہوم تو ڈر ہی ہے مگر خوف کہتے ہیں اس ڈر کو جس میں عظمت ضروری نہیں ہے، بلا عظمت کے بھی خوف ہوتا ہے جیسے تھانیدار کا ڈر، پولیس کا ڈر کہ عظمت نہیں ہوتی مگر ڈر ہے۔ اب ایک اور مثال سنیے جو اس سے زیادہ قریب الفہم اور آسان تر ہے کہ سانپ نکلا تو اس کا ڈر ہوتا ہے مگر کیا دل میں اس کی

عظمت ہوتی ہے؟ اگر عظمت ہوتی تو جوتے سے پٹائی کیوں کر رہے ہو، ڈنڈے کیوں لگا رہے ہو۔ معلوم ہوا کہ خوف کا استعمال عظمت پر بھی ہوتا ہے اور بغیر عظمت پر بھی ہوتا ہے۔ مگر خشیت کا استعمال صرف وہیں ہوگا جہاں خوف کے ساتھ عظمت لازم ہو۔ اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے سانپ سے خشیت ہے، پولیس والوں سے خشیت ہے، بھیڑیے یا پاگل گتے سے خشیت ہو رہی ہے، عربی لغت کے اعتبار سے یہاں لفظ خوف کا استعمال جائز ہے، خشیت کا جائز نہیں۔ خشیت کا استعمال خاص ہے جہاں خوف کے ساتھ عظمت شامل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں خشیت اور کہیں مطلق خوف استعمال فرمایا اور قرآن پاک کی تفسیر کا اصول ہے کہ جب ایک جگہ معنی مقید ہو جائیں تو ہر جگہ مقید ہوں گے لہذا جہاں جہاں لفظ خوف مطلق آیا ہے وہ خشیت کے معنی سے مقید ہوگا اس لیے خوف کا ترجمہ خشیت ہی ہوگا کیونکہ اللہ کے خوف کے ساتھ عظمت الہیہ ضروری ہے جب کہ مخلوق سے خوف کے لیے عظمت کا ہونا ضروری نہیں۔ یہ فرق ہے خشیت اور خوف کا۔

تو واما من خاف مقام ربہ کا مطلب ہے کہ جو اپنے رب کی عظمت کی وجہ سے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے اور ان کو حساب دینا ہے اور اللہ مجھ کو آسمان سے دیکھ رہا ہے کہ میری نظر کہاں جا رہی ہے اور میری نظر پر ان کی نظر جمی ہوئی ہے۔

میری نظر پہ ان کی نظر پاسبان رہی

افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم

اللہ کا خوف ہو اور خدا کے خوف سے خلوت میں، جلوت میں تنہائی میں مجمع میں ہر جگہ ہم اللہ کو ناراض کرنے سے ڈر رہے ہوں۔ شیطان کہے گا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے تو شیطان سے کہو کہ اللہ تو ہے وَهُوَ مَعَكُمْ وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے اور جب وہ ساتھ ہے تو وہ نابینا نہیں ہے جو دوسروں کو آنکھیں عطا فرماتا ہے وہ بھلا خود نابینا ہوگا! تو جب وہ ساتھ ہے اور دیکھ رہا ہے تو اللہ کے خوف سے اللہ کی ناپسندیدہ خواہشات کو توڑنا اسی کا نام سلوک ہے، اسی کا نام بندگی ہے، اسی کا نام عشق الہی ہے، اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام احسان ہے، اسی کا نام ایمان ہے اور اسی کا نام اسلام ہے۔

گناہوں سے بچنے کا آسان راستہ

اگر گناہ کے تقاضوں کو توڑنے کا حوصلہ نہیں ہے تو اللہ والوں سے جڑو۔ دیسی آم میں لنگڑے آم کی قلم اور پیوند لگا دو تو دیسی آم لنگڑا آم بن جاتا ہے۔ اپنے دیسی دل میں اللہ والوں کے لنگڑے دل کی قلم لگا لو تو آپ کا دیسی دل اللہ والا دل بن جائے گا۔ جب تربیت ہوگی تو اس اللہ والے کا ایمان، اس کا احسان اس کا اسلام آپ میں منتقل ہو جائے گا، دل میں ایمان و یقین کی گرمیاں آجائیں گی مختنیت رجالت سے تبدیل ہو جائے گی، یہ اللہ والوں کی صحبت ایسا قومی معجون ہے کہ دنیا میں کسی دوا خانے سے نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كُونُوا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ کہ میرے عاشقوں میں رہو تو تمہارا ذوق فاسقی ذوق عاشقی سے تبدیل

ہو جائے گا اور تمہاری قسمت بدل جائے گی، تم قافلہ جنت والوں میں شامل ہو جاؤ گے اور اس کے لیے بتا دیا کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو اور جب یہاں آپ گلشن اقبال میں آئیے تو دونیت کر لیجیے کہ دین کی باتیں بھی سنیں گے اور ہمیں ایک اللہ والوں کے غلام کی صحبت بھی مل جائے گی اور کتنے اللہ والے یہاں آتے ہیں ان کی صحبت بھی نصیب ہو جائے گی۔

مولانا رومی فرماتے ہیں ایک چراغ کے بجائے اگر بیس چراغ جل رہے ہوں تو کیا روشنی بڑھ نہ جائے گی اگرچہ نور ضعیف سہی مثلاً چالیس چالیس پاور کے دس بلب جل رہے ہوں تو چار سو پاور کی روشنی نہ ہو جائے گی؟ تو یہ نہ سوچیے کہ یہ معمولی لوگ ہیں، مجھ کو خود ان کی صحبت سے فائدہ ہوتا ہے۔ علامہ آلوسی نے فرمایا کہ کعبہ پر اللہ کی تجلیات کی بارش ہو رہی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کا نور بھی شامل ہے۔ لیکن مولانا نے ایک بات اور بیان کی جو آپ کہیں نہ سنیں گے کہ کعبہ کے اندر جتنے اولیاء اللہ بیٹھے ہیں کعبۃ اللہ کے نور کے ساتھ ان کا نور بھی فضا کو جگمگ کر رہا ہے۔ اس لیے کعبہ میں قدم رکھتے ہی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اتنے بندے جو اللہ کے لیے یہاں آتے ہیں کیا ان کا نور اثر انداز نہ ہوگا؟ اللہ والوں کا خود ایک نور ہوتا ہے اور ان ہی کی برکت سے مجھے مضامین کی آمد ہوتی ہے۔ جیسے مہمان ہوتے ہیں ویسی ہی ڈش آتی ہے یا نہیں؟ آپ کے دسترخوان پر جیسی عظیم شخصیتیں ہوں گی ویسی ہی عظیم ڈش آپ کی ہوگی۔ اگر آپ کے یہاں بادشاہ

مہمان ہو جائے تو کیا اسے معمولی کھانا کھلاؤ گے یا اس کی حیثیت کے مطابق کھانے کا اہتمام کرو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے جس درجے کے لوگ آتے ہیں اور جس کے دل میں اللہ کی جیسی تڑپ اور پیاس ہوتی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ جس درجہ کا ولی بنانا چاہتا ہے ہر ایک کی قسمت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ غذائے روحانی کی ڈش بھیجتا ہے۔ اور جو میں گزارش کر رہا ہوں اس پر اگر عمل کر لیا جائے تو اولیائے صدیقین کی خط انتہا تک پہنچ کر ان شاء اللہ، اللہ کے پاس جانا ہوگا۔ ذرا سی محنت ہے اللہ کا راستہ بہت آسان راستہ ہے۔ جتنی محنت جتنی پریشانی گناہوں کے کرنے میں ہے اتنا ہی آرام گناہوں سے بچنے میں ہے کیونکہ گناہ ایک کام ہے اور بتائیے کام کرنا آسان ہے یا کام نہ کرنا؟ ظاہر ہے کہ کام نہ کرنا آسان ہے۔ بس کام نہ کیجیے اور آرام سے رہیے یعنی گناہ نہ کیجیے اور سکون سے رہیے۔ جن لوگوں نے گناہ چھوڑ دیا انہوں نے بتایا کہ پہلے ہم آگ میں جل رہے تھے اور جب سے گناہ چھوڑ دیئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دوزخ سے جنت میں آگئے، گرم چلچلاتی دھوپ سے ٹھنڈک میں ہماری روح آگئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر گناہ کا تعلق اللہ کے غضب سے ہے اور اللہ کے غضب میں ٹھنڈک نہیں ہے۔ دوزخ بھی اللہ کے غضب کا مظہر ہے، غضب الہی کے ظہور کی جگہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مظہر تجلیاتِ رحمت، مظہر تجلیاتِ کرم، مظہر تجلیاتِ قرب اور مظہر انوارِ اولیائے صدیقین بنا دے۔

☆ آمین ☆

اب قربانی کا زمانہ آرہا ہے۔ اس لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ چاروں اماموں میں سے کسی امام کے نزدیک گناہ جائز نہیں ہے اور جس طرح جانور کی قربانی واجب ہے کیا گناہوں کے تقاضوں کی قربانی واجب نہیں ہے؟ جانور کی قربانی سے واجب ادا ہو جائے گا اور بہت ثواب ملے گا لیکن گناہوں کے تقاضوں کی قربانی سے آپ ولی اللہ ہو جائیں گے اور جانور کی قربانی نہ کرنے سے سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اور گناہوں کی قربانی کرنے سے آپ ولی اللہ ہو جائیں گے تو جانور کی قربانی کر کے سزا سے بچنا بھی ضروری ہے اور گناہوں کے تقاضوں کی قربانی کر کے ولی اللہ بننا بھی ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ دونوں جہان عطا فرمادے دنیا بھی دے آخرت بھی دے اور ہم سب کو، ہماری ذریعات کو، ہماری اولاد کو، ہمارے احباب عالم کو، حاضرین کو، حضرات کو، سامعین کو، سامعات کو، غائبین کو، غائبات کو، کسی کو بھی محروم نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے آمین۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ صَلَّى اللّٰهُ
تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ
بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ؕ

☆☆☆☆☆